



Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe

آفس آف دی ریویو جی ایپلیکیشنز کمشنر

یورپی یونین (سبسٹری پروٹیکشن) ریگولیشنز، 2013 (S.I. نمبر 426 آف 2013)

سبسٹری پروٹیکشن کیلئے دی جانے والی درخواستوں کی تفتیش اور فیصلے کیلئے طریقہ ہائے کار

درخواست گزاروں کیلئے معلوماتی نوٹ

یہ نوٹ صرف معلومات اور رہنمائی کیلئے ہے۔ اس کا مقصد ان ریگولیشنز کی قانونی تشریح فراہم کرنا
ہرگز نہیں ہے۔

1- تعارف

- 1.1 یہ معلوماتی نوٹ ریاست میں سبسٹری پروٹیکشن کی درخواستوں کی تفتیش اور فیصلے سے متعلق قانون کے بارے میں تفصیلات فراہم کرتا ہے، جو کہ یورپی یونین (سبسٹری پروٹیکشن) ریگولیشنز 2013 (S.I. نمبر 426 آف 2013) - ("2013 کی ریگولیشنز") میں شامل ہے۔
- 1.2 2013 کی ریگولیشنز کو وزیر انصاف و مساوات ("منسٹر") نے وضع کیا اور ان کا نفاذ 14 نومبر 2013 ("تاریخ آغاز") کو عمل میں آیا۔
- 1.3 2013 کی ریگولیشنز کے تحت، سبسٹری پروٹیکشن کی درخواستوں پر کارروائی کرنا ریویو جی ایپلیکیشنز کمشنر ("کمشنر") کی ذمہ داری بن گیا۔
- 1.4 دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ، اس بات کو یقینی بنانے کیلئے کہ آپ مندرجہ ذیل کو سمجھتے ہیں اس معلوماتی نوٹ کو پڑھنا ضروری ہے اور اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے:

- (الف) آپ کی سبسڈری پروٹیکشن کی درخواست کے حتمی فیصلے کے انتظار کے دوران اٹرلینڈ میں رہتے ہوئے آپ کے حقوق، ذمہ داریاں اور فرائض۔
- (ب) 2013 کی ریگولیشنز کے طریقہ ہائے کار جن کے مطابق آپ کی سبسڈری پروٹیکشن کی درخواست پر کارروائی کی جائے گی۔
- (ج) 2013 کی ریگولیشنز میں طے کردہ وقت کی حدود اور دیگر تقاضوں کی تعمیل اور کارروائی کے ہر مرحلے پر بروقت جواب دینے کی اہمیت۔

1.5 اگر آپ کو ریگولیشنز کے بارے میں مزید معلومات درکار ہیں، جیسا کہ ان کا اطلاق کسی انفرادی مقدمے میں ہوتا ہے، قانونی مشورہ حاصل کیا جانا چاہیے۔

2- 2013 کی ریگولیشنز کا مقصد

- 2.1 یہ ریگولیشنز 14 نومبر 2013 کو یا اس کے بعد ریاست میں سبسڈری پروٹیکشن کی نئی درخواستوں کی تفتیش اور فیصلے کیلئے ایک نظام فراہم کرتی ہیں۔
- 2.2 ان کا اطلاق وزیر انصاف و مساوات (اٹرش نیچرلائزیشن اینڈ امیگریشن سروس) کو دی جانے والی سبسڈری پروٹیکشن کی ایسی موجودہ درخواستوں پر بھی ہوتا ہے جن کے بارے میں 2013 کی ریگولیشنز کی تاریخ آغاز سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے اور جنہیں اس تاریخ سے کارروائی کیلئے کمشنر کو منتقل کر دیا گیا ہے۔

3- 2013 کی ریگولیشنز کن چیزوں کا احاطہ کرتی ہیں؟

اگر آپ سبسڈری پروٹیکشن کیلئے ایک نئے درخواست گزار ہیں تو:

- 3.1 2013 کی ریگولیشنز بیان کرتی ہیں کہ 14 نومبر 2013 کو اور اس کے بعد سبسڈری پروٹیکشن کی درخواستوں کی تفتیش اور فیصلہ کمشنر کے ذریعے کیا جائے گا۔
- 3.2 اس تاریخ سے، سبسڈری پروٹیکشن کیلئے نئی درخواستیں وزیر انصاف و مساوات کو دی جا سکتی ہیں لیکن متعلقہ درست درخواست فارم پر ہی کمشنر کو بھیجی جانی چاہئیں۔ پھر کمشنر 2013 کی ریگولیشنز کے مطابق اور سبسڈری پروٹیکشن کے درخواست گزار کے انٹرویو کے بعد درخواست کی تفتیش سے متعلق ایک تحریری رپورٹ تیار کرے گا۔ کمشنر وزیر انصاف و

مساوات کو ایک تجویز پیش کرے گا کہ آیا درخواست گزار ایک ایسا شخص ہے جو سبسڈری پروٹیکشن کا اہل ہے۔

اگر آپ سبسڈری پروٹیکشن کیلئے ایک ایسے موجودہ درخواست گزار ہیں جس کی درخواست کے بارے میں منسٹر نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔

3.3 سبسڈری پروٹیکشن کی ایسی درخواستیں جن کے بارے میں وزیر انصاف و مساوات نے 2013 کی ریگولیشنز کی تاریخ آغاز سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں کیا انہیں تفتیش اور فیصلے کیلئے کمشنر کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ منسٹر ان تمام درخواست گزاروں کو ان کی درخواست پر غور و خوض سے متعلق قابل اطلاق قواعد و ضوابط سے مطلع کرے گا۔

3.4 ایسے افراد کو سبسڈری پروٹیکشن کیلئے کمشنر کو نئی درخواست دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ اضافی گزارشات (دستاویزات) پیش کر سکتے ہیں (دیکھیے نیچے پیراگراف 7.5)

4- سبسڈری پروٹیکشن کیا ہے؟

4.1 سبسڈری پروٹیکشن ایک تحفظ ہے جو کسی ایسے شخص کو فراہم کیا جاتا ہے جس کے بارے میں ایسی ٹھوس وجوہات پیش کی گئی ہوں جن سے یہ یقین ہو جائے کہ متعلقہ مرد یا عورت کو اگر اس کے اصل ملک میں واپس بھیجا جاتا ہے تو اسے شدید نقصان پہنچنے کے حقیقی خطرے کا سامنا کرنا ہو گا، اور وہ اس ملک کے تحفظ سے استفادہ کرنے سے قاصر یا، ایسے خطرے کے پیش نظر، اس کیلئے آمادہ نہ ہو، اور جسے سبسڈری پروٹیکشن کیلئے نااہل قرار نہ دیا گیا ہو۔

4.2 شدید نقصان کا مطلب ہے -

- (الف) سزائے موت؛ یا
- (ب) تشدد یا غیر انسانی یا ہتک آمیز سلوک یا اپنے اصل ملک میں اس شخص کو کوئی سزا؛ یا
- (ج) بین الاقوامی یا اندرونی مسلح خلفشار کی حالت میں بلا امتیاز تشدد کی وجہ سے کسی شہری کی زندگی یا اس شخص کو لاحق سنگین اور انفرادی خطرہ۔

4.3 اگر آپ سبسٹری پروٹیکشن کیلئے اہل ثابت ہوتے ہیں تو آپ کو ریاست میں رہنے کی اجازت دی جائے گی اور آپ مخصوص حقوق اور مراعات کے اہل ہوں گے۔ ان حقوق اور مراعات کا تعین 2013 کی ریگولیشنز میں کیا گیا ہے۔

5- کون سبسٹری پروٹیکشن کیلئے اہل ہے؟

5.1 بشرطیکہ آپ اپنی درخواست دیتے وقت ریاست میں موجود ہیں، آپ 2013 کی ریگولیشنز کے مطابق سبسٹری پروٹیکشن کیلئے اہل ہیں اگر:

- (الف) آپ یورپی یونین کی کسی رکن ریاست کے نیشنل نہیں ہیں،
- (ب) آئرلینڈ میں پناہ گزین قرار دیے جانے کی آپ کی درخواست مسترد ہو چکی ہے،
- (ج) ٹھوس وجوہات پیش کی گئی ہیں جن سے یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر آپ کو آپ کے اصل ملک میں واپس بھیجا جاتا ہے تو آپ کو شدید نقصان پہنچنے کے حقیقی خطرے کا سامنا کرنا ہو گا، اور آپ اس ملک کے تحفظ سے استفادہ کرنے سے قاصر یا، ایسے خطرے کے پیش نظر، اس کیلئے آمادہ نہیں ہیں۔
- (د) آپ کو اس کا اہل ہونے سے خارج نہیں کیا گیا ہے۔

5.2 2013 کی ریگولیشنز کے مطابق آپ کو سبسٹری پروٹیکشن کی اہلیت سے خارج کر دیا جائے گا اگر اس بابت سنگین وجوہات موجود ہیں کہ آپ -

- (الف) امن یا انسانیت کے خلاف کسی جرم یا کسی جنگی جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، جیسا کہ ایسے جرائم کے حوالے سے قانون بنانے کیلئے وضع کیے گئے بین الاقوامی دستاویزات میں درج ہے؛
- (ب) سے کوئی سنگین جرم سرزد ہوا ہے؛
- (ج) اقوام متحدہ کے چارٹر کے دیباچے اور آرٹیکلز 1 اور 2 میں بیان کردہ اقوام متحدہ کے مقاصد اور اصولوں کے برخلاف کاروائیوں کیلئے قصوروار رہے ہیں، یا
- (د) کمیونٹی یا ریاست کی سلامتی کیلئے خطرہ سمجھے جاتے ہیں۔

5.3 آپ کو سبسٹری پروٹیکشن کی اہلیت سے اس لیے بھی خارج کر دیا جائے گا اگر:

(الف) اس بابت سنگین وجوہات موجود ہیں کہ آپ نے پیراگراف 5.2 (الف) تا (د) میں حوالہ شدہ کسی جرم یا عمل کو تحریک دی ہے یا بصورت دیگر اس میں حصہ لیا ہے،

(ب) آپ نے اپنا اصل ملک محض اس لیے چھوڑا ہے تاکہ ریاست میں آپ کے داخلے سے پہلے کیے گئے کسی جرم یا جرائم (لیکن اس میں پیراگراف 5.2 (الف) تا (د) میں درج کردہ کوئی جرم یا طرز عمل شامل نہیں) کے نتیجہ میں عائد ہونے والی پابندیوں سے بچ سکیں، جہاں ایسے جرائم کی سزا قید ہوتی اگر ان کا ارتکاب ریاست میں کیا جاتا۔

6- ریاست میں سبسڈری پروٹیکشن کیلئے کون درخواست دے سکتا ہے؟

6.1 2013 کی ریگولیشنز سے مشروط، کوئی بھی ایسا شخص سبسڈری پروٹیکشن کیلئے درخواست دے سکتا ہے

(الف) جو ریاست میں موجود ہو، اور

(ب) جس کی اٹرلینڈ میں پناہ گزین قرار دیے جانے کی درخواست مسترد ہو چکی ہو۔

6.2 اگر منسٹر آپ کو پناہ گزین قرار نہ دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو آپ کو ایک تحریری نوٹس بھیجا جائے گا جس میں یہ درج ہو گا کہ پناہ گزین قرار دیے جانے کیلئے دی گئی آپ کی درخواست مسترد ہو چکی ہے۔

6.3 اس نوٹس کے ساتھ سبسڈری پروٹیکشن کے بارے میں ایک معلوماتی نوٹ اور ایک درخواست فارم بھی شامل ہو گا۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ سبسڈری پروٹیکشن کیلئے اہل ہو سکتے ہیں تو آپ کو وہ نوٹس بھیجے جانے کی تاریخ سے 15 دنوں کے اندر اندر وہ فارم مکمل کر کے کمشنر کو واپس بھیجنا چاہیے۔

7- ریویو ایپلیکیشنز کمشنر میری سبسڈری پروٹیکشن کی درخواست پر تفتیش کیسے کرے گا؟

7.1 کمشنر 2013 کی ریگولیشنز کے مطابق آپ کی سبسڈری پروٹیکشن کی درخواست پر تفتیش اور فیصلہ کرے گا۔

7.2 سبسڈری پروٹیکشن کی درخواستوں پر کاروائی کے نئے قواعد و ضوابط کے تحت، آپ کو اپنی درخواست کے سلسلہ میں ایک انٹرویو کیلئے حاضر ہونا پڑے گا۔ انٹرویو کا مقصد سبسڈری پروٹیکشن کیلئے آپ کے دعوے کی مکمل تفصیلات کی حقیقت دریافت کرنا ہے۔

7.3 درخواست گزار کیلئے ضروری ہے کہ وہ ریویو ایپلیکیشنز کمشنر کے دفتر میں انٹرویو کیلئے مقررہ تاریخ اور وقت پر انٹرویو کیلئے حاضر ہو۔ اگر کوئی درخواست گزار اپنے طے کردہ انٹرویو کیلئے حاضر نہیں ہوتا یا ہوتی تو اس کی درخواست کو واپس لے لیا گیا تصور کیا جائے گا۔ (دیکھیے پیراگراف 8.2)۔

7.4 درخواست گزار تفتیش سے متعلق کسی بھی معاملے میں کمشنر کو تحریری بیانات پیش کر سکتا ہے اور کمشنر 2013 کی ریگولیشنز کے تحت انٹرویو سے پہلے یا دوران انٹرویو پیش کیے گئے کسی بھی بیانات کو مد نظر رکھے گا۔ یونائیٹڈ نیشنز ہائی کمشنر برائے ریویو اور کوئی بھی دیگر متعلقہ شخص بھی تحریری بیانات پیش کر سکتا ہے۔

7.5 اگر آپ سبسڈری پروٹیکشن کیلئے پہلے سے ہی ایسے موجودہ درخواست گزار ہیں جس کی درخواست کے بارے میں 2013 کی ریگولیشنز کے آغاز کے وقت تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے تو آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ کمشنر کو بھیجی جانے والی دستاویزات سمیت اضافی بیانات جمع کروانے کے سلسلہ میں انٹرنیشنل اینڈ امیگریشن سروس کی جانب سے آپ کو ارسال کردہ خط کے ساتھ شامل گائیڈ لائنز دستاویز سے رجوع کریں۔

7.6 انٹرویو کے دوران درست بات چیت کو یقینی بنانے کے مقصد سے جہاں ضروری ہوا کمشنر کی جانب سے ایک ترجمان فراہم کیا جائے گا۔

کاروائی کے انتظامات کا خلاصہ

7.7 سبسڈری پروٹیکشن کی درخواستوں کیلئے کاروائی کے انتظامات کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

- (الف) کمشنر آپ کی درخواست کے سلسلے میں آپ کے انٹرویو کا بندوبست کرے گا۔
- (ب) انٹرویو کے بعد، آپ کی درخواست کی تفتیش کے نتائج کے بارے میں ایک تحریری رپورٹ تیار کی جائے گی اور کمشنر کی جانب سے وزیر انصاف و مساوات کو ایک تجویز پیش کی جائے گی کہ آیا آپ سبسڈری پروٹیکشن کیلئے اہل ہیں یا نہیں۔
- (ج) منفی تجویز کی صورت میں، کمشنر کی منفی تجویز کا نوٹس بھیجے جانے کے 15 دفتری دنوں کے اندر اندر آپ کو ریویو ایپلیکیشن بیونل ("ٹرائی بیونل") کے پاس

تجویز کے خلاف اپیل کرنے کا حق حاصل ہو گا۔ ٹرائی بیونل ایک زبانی سماعت کا انعقاد کرے گا اگر درخواست گزار اپنے اپیل کے نوٹس میں اس کی درخواست کرتا یا کرتی ہے؛ بصورت دیگر، اپیل کا فیصلہ زبانی سماعت کے بغیر ہی کیا جا سکتا ہے۔

(د) کمشنر کی تجویز یا ٹرائی بیونل کے فیصلے کی بنیاد پر، منسٹر 2013 کی ریگولیشنز کے مطابق جیسا مناسب ہو آپ کو سبسڈری پروٹیکشن دینے یا نہ دینے کا اعلان کرے گا۔

7.8 اگر منسٹر آپ کی سبسڈری پروٹیکشن کی درخواست کو مسترد کر دیتا ہے تو آپ کو ایک تحریری نوٹس بھیجا جائے گا جس میں درج ہو گا کہ:

- (الف) آپ کی سبسڈری پروٹیکشن کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے؛
- (ب) ریاست میں رہنے کے آپ کے استحقاق کی مدت ختم ہو چکی ہے؛
- (ج) منسٹر امیگریشن ایکٹ 1999 کی دفعہ 3 کے تحت ملک بدری کا ایک حکم جاری کرنے کی تجویز پیش کرتا ہے جو تقاضہ کرتا ہے کہ آپ ریاست کو چھوڑ دیں؛ اور
- (د) آپ کے پاس 15 دفتری دنوں کے اندر اندر منسٹر کے نام تحریری بیانات پیش کرنے کا اختیار ہو گا جس میں یہ وضاحت ہو کہ آپ کو ریاست میں رہنے کی اجازت کیوں دی جانی چاہیے۔

8- اہم: کیا میں اپنی سبسڈری پروٹیکشن کی درخواست واپس لے سکتا ہوں یا کیا کسی درخواست کو واپس لے لی گئی تصور کیا جا سکتا ہے؟

8.1 درخواست گزار کمشنر کو واپسی کا ایک نوٹس بھیج کر اپنی سبسڈری پروٹیکشن کی درخواست واپس لے سکتا یا سکتی ہے۔

8.2 اگر درخواست گزار کمشنر کے ساتھ طے کردہ اپنے انٹرویو کیلئے حاضر نہیں ہوتا تو، اگر درخواست گزار اس تاریخ کے بعد 3 دفتری دنوں سے پہلے پہلے کمشنر کو غیر حاضری کی کوئی ایسی وضاحت پیش نہیں کرتا جو کمشنر کی رائے میں حالات کے مدنظر معقول ہو تو 2013 کی ریگولیشنز کے مطابق اس کی درخواست کو واپس لے لیا گیا تصور کیا جائے گا۔

8.3 اگر کمشنر کے خیال میں درخواست گزار

(الف) اپنی درخواست کی تفتیش کے دوران کمشنر کے ساتھ تعاون کرنے کی اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو رہا یا رہی ہے، یا

(ب) سبسٹری پروٹیکشن کیلئے اپنی درخواست سے متعلقہ معلومات پیش کرنے کی اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو رہا یا رہی ہے، یا

اگر منسٹر کمشنر کو مطلع کرتا یا کرتی ہے کہ اس کی رائے میں کوئی درخواست گزار
(ج) منسٹر کی رضامندی کے بغیر ریاست کو نہ چھوڑنے یا چھوڑنے کی کوشش
کرنے، یا
(د) کمشنر کو اپنے ایڈریس اور ایڈریس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے بارے
میں جلد از جلد آگاہ کرنے

کے سلسلے میں اپنے فرائض کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو کمشنر درخواست گزار کو ایک
تحریری نوٹس بھیجے گا جو درخواست گزار سے مطالبہ کرے گا کہ وہ نوٹس بھیجے جانے کے
15 دفتری دنوں کے اندر اندر تحریری طور پر واضح کرے کہ آیا وہ اپنی درخواست کو جاری
رکھنا چاہتا یا چاہتی ہے کہ نہیں اور، اگر کوئی درخواست گزار معینہ مدت کے اندر ایسی
وضاحت پیش نہیں کرتا یا کرتی تو 2013 کی ریگولیشنز کے مطابق سبسٹری پروٹیکشن کیلئے
اس کی درخواست کو واپس لے لیا گیا تصور کیا جائے گا۔ ایسی درخواست کے سلسلے میں
کمشنر کی رپورٹ میں ایک تجویز شامل ہو گی کہ متعلقہ درخواست گزار کو سبسٹری پروٹیکشن
کیلئے اہل فرد قرار نہیں دیا جانا چاہیے۔

8.4 اگر سبسٹری پروٹیکشن کی درخواست واپس لے لی جاتی ہے یا اسے واپس لے لیا گیا تصور کیا
جاتا ہے تو ریفیوجی ایپلز ٹرائی بیونل کے پاس کسی ایپل کی اجازت نہیں۔

9. سبسٹری پروٹیکشن کے عمل سے متعلق معلومات تک رسائی

9.1 2013 کی ریگولیشنز تک مکمل رسائی ریفیوجی ایپلیکیشنز کمشنر کی ویب سائٹ
<http://www.ORAC.ie> پر حاصل کی جا سکتی ہے۔

9.2 یہ معلوماتی نوٹ ریفیوجی ایپلیکیشنز کمشنر کی ویب سائٹ پر متعدد زبانوں میں دستیاب ہے۔

10. دیگر معلومات

10.1 آپ کو اپنی سبسٹری پروٹیکشن کی درخواست کے سلسلے میں کسی وکیل سے مشورہ کرنے کا
حق حاصل ہے اور آپ ریفیوجی لیگل سروس (RLS) کی خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔
RLS ایک خودمختار ادارہ ہے جو آنرلینڈ میں تحفظ کیلئے درخواست دینے والے لوگوں کو

رازدارانہ قانونی خدمت فراہم کرنے کیلئے قائم کیا گیا ہے۔ **RLS** آپ کی درخواست کی حمایت میں قانونی مشورہ اور معاونت فراہم کرے گا۔ متبادل طور پر، آپ اپنے خرچے پر کسی نجی وکیل کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو یونائیٹڈ نیشنز ہائی کمشنر برائے ریفریوجیز سے مشورہ کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔

10.2 جب تک آپ کی سبسٹری پروٹیکشن کی درخواست سے متعلق حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ کو ریاست میں رہنے کی اجازت ہے۔ منسٹر موجودہ درخواست گزاروں کو اس بارے میں ایک خط فراہم کرے گا۔ نئے درخواست گزاروں کو یہ خط کمشنر کی جانب سے موصول ہو گا۔

10.3 دیگر دستوری معاملات جن کا ذکر اس معلوماتی نوٹ میں نہیں کیا گیا ہے اور سبسٹری پروٹیکشن کے اہل فرد کے حقوق اور استحقاق کی تفصیلات اور ایسا فرد جس کیلئے سبسٹری پروٹیکشن زیر استعمال ہے کیلئے 2013 کی ریگولیشنز سے رجوع کیا جانا چاہیے۔

سبسٹری پروٹیکشن کے موجودہ درخواست گزاروں کیلئے ایک اطلاع جن کی درخواستوں کے بارے میں منسٹر نے تاریخ آغاز تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے

10.4 اگر 2013 کی ریگولیشنز کے آغاز پر آپ پہلے ہی سبسٹری پروٹیکشن کیلئے درخواست دے چکے ہیں اور آپ کی درخواست کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے تو آپ کو مندرجہ ذیل باتیں نوٹ کر لینی چاہئیں:

- کمشنر آپ کے انٹرویو کا بندوبست کرنے سے متعلق مناسب وقت پر آپ سے رابطہ کرے گا، لہذا آپ کو **ORAC** سے براہ راست یا بالواسطہ طور پر رابطہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور
- جب تک آپ کی سبسٹری پروٹیکشن کی درخواست کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں آپ کو ملک بدری کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔

14 نومبر 2013

كچھ رابطوں كى تفصیلات

Office of the Refugee Applications Commissioner

Timberlay House,
79-83 Lower Mount Street,
Dublin 2.

فون: 01 6028000
لوكال نمبر: 1890 202 418
ويب سائٹ: www.orac.ie
ای میل: oracmail@orac.ie

Refugee Appeals Tribunal

6/7 Hanover Street East,
Dublin 2.

فون: 01 4748400
لوكال نمبر: 1890 201 458
ويب سائٹ: www.refappeal.ie
ای میل: info@refappeal.ie

Refugee Legal Service

Refugee Legal Service Law Centre - Smithfield,
48/49 North Brunswick Street,
Georges Lane,
Dublin 7.

فون: 01 646 9600.
ويب سائٹ: www.legalaidboard.ie
ای میل: lawcentresmithfield@legalaidboard.ie

International Organisation for Migration

116 Lower Baggot Street,
Dublin 2.

مفت فون: 1800 406 406
فون: 01 6760655
ويب سائٹ: www.ireland.iom.int
ای میل: iomdublin@iom.int

United Nations High Commissioner for Refugees

Suite 4,
Merrion House,
1-3 Lower Fitzwilliam Street, Dublin 2.

فون: 01 6314510.
ويب سائٹ: www.unhcr.ie
ای میل: iredu@unhcr.org